



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کا چوتھا راؤنڈ مکمل

- سدرن پنجاب نے سندھ کو 1 اننگز اور 129 رنز سے شکست دے دی
- خیبر پختونخوا اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا
- عمران بٹ نے بلوچستان کو ناردرن کے خلاف شکست سے بچالیا

لاہور، 8 اکتوبر 2019ء:

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ میں سدرن پنجاب نے عامر یامین کی آلراؤنڈر کارکردگی کی بدولت سندھ کو ایک اننگز اور 129 رنز سے شکست دے کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ پہلی اننگز میں فالو آن کا شکار ہونے والی سندھ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 133 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اس سے قبل عمیر بن یوسف اور فواد عالم نے سندھ کی جانب سے 58 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ سے میچ کے آخری روز کھیل کا دوبارہ آغاز کیا تو آلراؤنڈر بلاول بھٹی اور عامر یامین کی عمدہ باؤلنگ کے سامنے میزبان ٹیم کے بلے باز بے بس دیکھائی دیئے۔ 133 رنز پر ڈھیر ہونے والی سندھ کی ٹیم کے 3 کھلاڑی کھاتہ کھولے بغیر پولین واپس لوٹے۔ سندھ کی جانب عمیر بن یوسف نے سب سے زیادہ 37 رنز اسکور کیے۔ سدرن پنجاب کی جانب سے بلاول بھٹی اور عامر یامین نے دوسری اننگز میں بالترتیب 4 اور 3 وکٹیں حاصل کیں۔ سدرن پنجاب کے راحت علی، عامر یامین اور بلاول بھٹی نے مجموعی طور پر میچ میں 5،5 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ اس سے قبل سدرن پنجاب نے عامر یامین اور کپتان شان مسعود کی سنچریوں کی بدولت 546 رنز بنائے تھے۔ جواب میں سندھ کی ٹیم پہلی اننگز میں 284 رنز بنا کر فالو آن کا شکار ہو گئی تھی۔

ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ 319 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سنٹرل پنجاب کی ٹیم کھیل کے اختتام پر 1 وکٹ کے نقصان پر 129 رنز ہی بنا سکی۔ میچ کے چوتھے روز

خیبر پختونخوا کی جانب سے اوپنر اسرار اللہ اور خوشدل شاہ نے 30 رنز ز 1 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو کپتان محمد رضوان نے 35 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی۔ سنٹرل پنجاب کوجیت کے لیے 319 رنز کا ہدف دیا گیا۔ جواب میں سنٹرل پنجاب کے کپتان اظہر علی 32 کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے۔ جس کے بعد سلمان بٹ اور محمد سعد نے پراعتماد کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سلمان بٹ 63 اور محمد سعد 40 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے کہ امپائرز نے کھیل کے لیے مقررہ وقت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل مہمان ٹیم کی خواہش پر خیبر پختونخوا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اشفاق احمد اور محمد رضوان کی سنچریوں کی بدولت 5 وکٹوں کے نقصان پر 484 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ جواب میں سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل نے سنچری اسکور کی تھی۔

دوسری جانب کے آریل اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلا گیا ناردن اور بلوچستان کے درمیان میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ 299 رنز کے تعاقب میں بلوچستان نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 183 رنز بنائے تھے کہ میچ کے لیے مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ اوپنر عمران بٹ نے 179 گیندوں پر 59 رنز سے میچ ڈرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ میچ کے آخری روز ناردن کے اوپنرز نیشان ملک اور حیدر علی نے 75 رنز بغیر کسی نقصان کے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو کپتان عمر امین نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 149 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی۔ بلوچستان کی ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے 299 رنز کا ہدف دیا گیا۔ ہدف کے تعاقب میں بلوچستان کے اوپنر عمران بٹ نے 59 رنز اسکور کیے۔ 179 گیندوں کا سامنا کرنے والے اوپنر کی اننگز میں 7 چوکے شامل تھے۔ انہوں نے 233 منٹ کریز پر بیٹنگ کی۔ عمران بٹ کے بعد بلوچستان کی ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ نہ کر سکا اور وقفے وقفے سے آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹتا رہا تاہم اختتامی لمحات میں تجربہ کار یاسر شاہ نے 26 گیندوں پر 14 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو شکست سے بچالیا۔ ناردن کے نعمان علی نے میچ میں مجموعی طور پر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس سے قبل ناردن کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 450 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ جواب میں بلوچستان کی ٹیم 301 رنز بنا سکی تھی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
 Editor – Urdu Content
 Media and Communications
 E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
 M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk